



سوال

کیا کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہے جس میں سورۃ التین پڑھنے کے بعد یہ ہو کہ انسان اسے ختم کرنے کے بعد یہ کہے "بلاشک میں گواہی دیتا ہوں" اور کیا یہ صحیح ہے اور کونسی کتاب میں ملے گی؟

جواب

الحمد للہ

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سنن ترمذی میں بیان کرتے ہیں کہ :

ہمیں سفیان نے اسماعیل بن امیہ سے روایت بیان کی کہ میں نے ایک بدوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا : جس نے والتین والزیتون پڑھی اور جب ایس اللہ با حکم الحاکمین پڑھے تو اسے یہ کہنا چاہیے ، علی وانا علی ذالک من الشاہدین ۔ کیوں نہیں اور میں بھی اس پر گواہ ہوں ۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسی سند سے بیان کی جاتی ہے عن هذا الاعرابی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس اعرابی کا نام نہیں لیا ، تو اس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی علت بیان فرمادی ہے کہ اس میں اعرابی مجھول ہے ، تو اس بنا پر سند ضعیف ہے اور حدیث صحیح نہیں ۔

اور ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مذکور اعرابی سے (753) روایت بیان کی ہے ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف الجامع (حدیث نمبر 5784) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ۔

تو جب حدیث پایا ثبوت تک ہی نہیں پہنچتی تو ہم اس پر عمل بھی نہیں کریں گے ۔

واللہ تعالیٰ اعلم ۔